en



Unilever

UNILEVER PAKISTAN FOODS LIMITED AVARI PLAZA, FATIMA JINNAH ROAD, KARACHI - 75530

INTERIM DIVIDEND - 2023 & BOOK CLOSURE

At its Meeting held on 24 August 2023 the Company's Board of Directors has declared Interim Dividend of Rs. 72 (Rupees Seventy Two Only) i.e. 720% per Ordinary Share of Rs. 10/- payable to Members on the Ordinary Shares registered in their names at the close of business on 7 September 2023.

The Company's share transfer books will be closed from **8 September 2023 to 11 September 2023** (both days inclusive) and will reopen on **12 September 2023** Valid transfers received upto **7 September 2023** at the Company's Share Registrar Office, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S, Main Sharah-e-Faisal, Karachi-74400, will be deemed in time for payment of the Interim Dividend - 2023 to the transferee.

Reminder for submission of the photocopy of CNIC / NTN (Mandatory)

The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computer-ized National Identity Card (CNIC) to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s Central Depository Company of Pakistan Limited, Share Registrar Department, CDC House, 99-B, Block "6", S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number with the copy of CNIC / NTN details. The Shareholders who hold shares with Participants / Stock Brokers or with Central Depository Company may approach to provide the CNIC number / NTN details to their Participants / Stock Broker or to CDC to update the details in their electronic system. Reference is also made to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notifications SRO 779 (I) dated August 18, 2011, and SRO S31 (I) 2012 dated July 05, 2012, which mandates that the dividend warrants should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members.

Submission of the NTN Details (Mandatory)

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR are advised to make sure that their names are entered into ATL before the start of book closure date for entitlement to payment of Dividend, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%.

The corporate members/shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or it's Share Registrar M/s Central Depository Company Share Registrar Services Limited. The Shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must code Company name and their respective folio numbers.

Dividend Mandate (Mandatory)

According to provision of Section 242 of the Companies Act 2017 and reference to SECP Circular No. 18 of 2017, any dividend payable in cash after 31 October 2017, shall be paid through electronic mode directly in to bank account designated by entitled shareholders. Shareholders having physical holding shall submit the prescribed Dividend Mandate Form to the Company's Share Registrar. The shareholders who hold shares with participants/stock brokers or with Central Depositary Company shall submit the prescribed Dividend Mandate Form to their participants/stock brokers or CDC with a copy of the Dividend Mandate Form to Share Registrar of the Company. Dividend Mandate Form is available on company's website.

Any change of address of Members should be immediately notified to the Company's Share Registrars, M/s CDC Share Registrar CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400.

Karachi

Dated: 29 August 2023

AMAN GHANCHI Company Secretary



Unitever یونی لیورپاکستان فوڈزلمیٹڈ آواری واردہ امریتان روز کرائی۔75530

عبوری منافع منقسمه 2023ء، کھاتے کے بندش

کھٹن کے بورا آف وائز یکٹرز نے اپنے اجازی میں جو 24 اگست 2023 کو منعقد ہوا، میں 10 روپ وائے م آوا بیزی شیئر ہے 72 روپ (میٹر روپ سرف) جو کہ 2004 فی آرا بیزی شیئر ہے، کے موری منافع منقسد 2023 کا اطان کیا ہے۔ جومبران کو آن آرا بیزی شیئرز پر کائل اوا لیکی جوکا جو 7 متیر 2023 کو کھاتے کی بندائی کے وقت آن کے وم بر روسلز ایون۔

کھٹن کی ٹیئز فرانسٹر کے۔8 حتیر 2023 ہے۔11 حتیر 2023 تک (دونوں دن شاق میں) بندر ہے گی اور 12 حتیر 2023 کو دوبار دکھو کی جائے گیا۔ ٹیئز کر کا منتق ہے حقیق دور خواشی جو 7 حتیر 2023 تک کھٹن کے ٹیئز رہسترار آفس، CDC ٹیئز رہستراد مرد دو ٹویڈ د CDC پاؤس 8-99-81 "B" سندھی سلم کو ایر بند باؤسکا سوسائی ، بین شاہر اولیسل آرازی - 74400 کو موصول ہوگئی ہوں اور برامانا سے تھل ہوں میموری مناقع مقسمہ 2023 کی۔ ادا کی کے لیے بروقت تصور کی جا کری گی۔

よいしてしておけん(Con)CNICNIN

جن افرادی مجبران نے اسمی تھی۔ اپنے کارا کہ کیجیوں کو قولی گائی کاروز (CNIC) کی کا بی تھی گئی انہیں و جسفرار کے ہاری فیل کردی کے ان کی ایک باری ہو اور باقد کر ایک باق ہے کہ وجلد سے جلد اپنے کہوارا کو قولی شائی کاروز ہاری کا کورٹر فیل کردی ہوار دیار دست کلی کے فیل روز کردی ہواک "B" سندگی سلم آوا پر ہو ہاؤ میک موسائی ا میں شاہرا و فیل کردی ہوار داست کلی کردی ہوریت اداروں سے درخواست ہے کہ وہ ایک میلی کی کی روز (NTN) میں شاہرا و فیل کی روز کردا و داست کا کردی ہوریت اداروں سے درخواست ہے کہ وہ این میلی کی گئی کے اس بیلی کی کار کے ساتھ میں میں میں میں مولار دی کے جاتھی ۔ کاراوز کو کا (کا کا این کی ان کی کی فروری کو کورٹ کی کیا گئی ہے اس بیلی ان کی کارائک کے ساتھ میں اپنی کردی جاتھی کی ساتھ کردی کی ایک کی کھی کورٹر کی کاروز کی کاروز کی کاروز کی کھی کے اس کی کاروز کی کاروز کی کھی کورٹر کاروز کی کھی کے اس کی کہا گئی کے اس کی کہا کہ کے دوری کاروز کی دوری کے کورٹ کے کہا کہ کہ کی کھی کھی کے دوری کی کاروز کی کاروز کی کاروز کو کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کو کاروز کاروز کی کاروز کردی کی کھی کورڈ کردی کی کاروز کردی کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کردی کاروز کی کاروز کردی کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کو کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کی کاروز کردی کاروز کاروز کاروز کاروز کاروز کی کاروز کاروز کاروز کاروز کاروز کی کاروز کاروز کاروز کاروز کی کاروز کاروز کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کی کاروز کی کاروز کاروز کاروز کاروز کی کاروز کاروز کاروز کاروز کی کاروز کاروز کی کاروز کاروز کاروز کاروز کی کاروز کی ک

NTN كالتعسيل فع كراة (ووي)

کھٹی کوئی کا گارنے کے لیے کہ دوکیش اوپر فائل مالیت پر 1914 کے بہائے 1514 فیصد کی شرع سے جھی گی کوئی کر سے اپنے تن موشیق جوالارز کوئین کے 4 مر FEBR کی ویپ سرانت پر ایکونیکس ویئز السند (ATL) میں دریافتوں کے لئے تیں اتم جاریت کی جاتی ہے کہ دواس امریکونٹی باقع کی کسان کے مواج پارٹی کے محتود میں ایک کی شرک کے کھاتوں کی بدوش کی جاریخوں کی شروعات سے تھی ATL میں شامل بوجا کیں، بھورت و مگر ان کے مجاش اوپر فائز ریکھی ماالا کا کے بھائے 2014 کی شروع ہے مندیا کیا جائے۔

کار پیریٹ شیئر جولارز ایپ NTN مرتیکئیس کی کا نیا کھٹی یا اس سے شیئر رشسوار مصر وسینز ل ایمیاز وی کھٹی شیئر رجسوار مرد لمونڈ کوکٹ کردا میں بے شیئر جولارز NTN NTN مرتیکیٹس کیکٹے وقت کھٹی کا دم اور حصالہ فوایو فیر شدہ دکھیں۔

(ازی) نامیستارسند(ازی)

کینیز ایک 2017ء کے بیٹنی 242 اور SECP کے 2017 کے مرکز نہر 18 کے وفیات کے مطابق 31 کئیر 2017ء کے بعد کیش میں قاف اوا کئی کوئی کی معافی معتصر استیناتی رکنے والے ثیبٹر بولڈرز کی مقر کروہ ویک اکوؤنٹ میں الیکٹرا تک طریقے ہے براہ راست اوا کیا جائے گا۔ وہ ثیبٹر بولڈرز بن کے پاس Physical ہے۔ وہ ثیبٹر بولڈرز بن کے باس کی کرائی کی کروا گراہ کی کہا کہ Particpants کی وہ گھڑہ مینڈ یت کا قارم اسپید ثیبٹر دی المحدود کی ایک کانی کھئی کے ٹیسٹر راسٹرار کوئی کی تاکسان کے واکٹ کو انگر انگل سسٹم میں اپنے بت کیا جائے اور اس قارم کی ایک کانی کھئی کے ٹیمٹر راسٹرار کوئی کی کرائی کے فائٹ کو انگر انگ سسٹم میں اپنے بت کیا جائے۔

عجر (اسپذههای می کی اند فی کی افغار ق فی می اور پر کیمن شیخ را بستوار میسرز CDC شیخ را شنوار مرد در کمیلاند ، پاؤس 18-199 بداک ۱۳۳۳ - عدمی شلم کما آپرینه بازشک سوسانی ، مین شایع در فیصل کرویی ، 74400 کرویی ، . گردی

سلميني سيكريذي

مورى 29 راكست 2023